

م ک اے گھنٹے اور اوو ٹیو کی الیگی

اعمال س ت ب ر د ا ر ی ی س و س ل م م ا ل ز م ت ی م ع ی ا ر ا ت س ے ت م ی ق ق ٹ ک ٹ، 2000 کی ای س اے (Employment Standards Act,) (ESA) 2000 اور ض و ب ل ط ک ع ی ت ح ت م ق ر ر ک ر د ب ع ض ر ک م ا ز ک م ق ح و ق اور ذ م د ا ہ و ر ک و س م ج ح ی ہ ہ م ا ل ز م ن اور آ ج و ن کی م ک اے الی ی ت ی ا ر ک ٹ ل ی ا مے۔ ی ح و ق و ن ی م ش و ر ن ی ہ مے۔ اس کا ق ص د ای ٹ ی س اے (ESA) ی ا ض و ب ل ط ک ی چ ک م ٹ ن ی ہ مے اور ح و ل ہ م م ش ق و ل و ن ک ی ب ض ر ی ط ہ و ر ژ ر ک ا م ی ٹ ا ج ا ن ا چ ل ی ہ ی و ر ت ی م ی ح و ق ن ی ن ل ی ک ی پ و ر ی ک و ش ش ک ت ہ ی ہ م ک ہ اس و س ل م ک ی ع ل و م ا ت م ک م ہ ح ت ک ن ت ا ز م ت ی ن اور ب ل ا ک ل و س ت م و ن، گ م ب س ا و ق ا ت غ ل ط ی ا ہ م و ہ ی ح ا ت ی ہ ی۔ ای ٹ ی س اے (ESA) ہ م ر ف ک م ل ز ک م ع ی ا ر ا ت ف ر ا ک م ر ت ا م ب ع ض م ا ل ز م ن ک و م ا ل ف ت ی م ج ا م دے، ا م ج ا م ی م ج ا م دے، ع م و م ی ق و ن ی ا ف گ ر ق و ل و ن ک ی ت ح ت س و ہ ع ت ر ق ح و ق ح ص ل و س ک ت ہ ی۔

م ا ل ف ت ی ع ی ا ر ا ت س ے ت م ی ق ق ٹ ک ٹ، 2000 کی ای س اے (Employment Standards Act, 2000 -ESA) ل و ٹ ا ی و ہ ر ی ا د م ت ر ک ا م ک ی چ ک م و ر ک اے الی ی ت ی ا ر ک م ا ز ک م ع ی ا ر ا ت ط ک ہ ر ت ا مے، ج س ہ ر ک ا ک ی گ ٹ ہے اور او و ر ٹ ی و کی الیگی ش ا م ل ی ہ ی۔ ی پ ر چ ہ ع ل و م ا ت ل و ٹ ا ی و ہ ر ک ا ک ی گ ٹ ہوں اور او و ٹ ا ی و کی الیگی کے ع ا م ل و ل و ر ک ی ب ا ر ہے ہ ی ع ل و م ا ن ف س ر ا ک م ر ت ا مے۔

ای ای س اے (ESA) کے تحت کچھ م ا ل ز م ت ی ن اور ص ر ن ع ی و ر ک و ک ا ک ی گ ٹ ہوں اور او و ٹ ا ی و کی الیگی کے چ ک م م ا ل ز م ت ی ن اور ا س ت ی ق ا ت ح ص ل ی ہ ی۔ ٹ ا آپ ک ی م ا ل ز م ت ی ن ع ی و ر ک و ل و ر ی ا ل م ن ا ت ک ا م ت و ج مے ی ن ی ہ ی، اس ب ا ر ہے ہ ی م و ن د ع ل و م ا ت اور ج ل ک ا ر ک اے الی ی ت ی Ontario.ca/ESAtools پ ر چ ل ی ہ ی۔

ک ا ک ی گھنٹے

گ ر آپ ک ا م ی ق و ل ک ا ک ا د ن ٹ ہ گ ٹ ہے س ے ز ی ل ہ ل م ا م ع ی و ل پ س ے ن ٹ ہ گ ٹ ہے ای آپ ک اے م ی ق و ل ک ا ک اے د ن ک ی گ ٹ ہوں کی ت ع د ا د س ے ز ی ا د ک ا ک ر ن ی ک ت ق ل ض ا ک و ہ ا ج ا س ک ت ا مے۔ آپ س ے ف ت ہے ہ ی 48 گ ٹ ہوں س ے ز ی ا د ک ا ک ر ن ی ک ت ق ل ض ا ب ہ ی ن ی ر ک ی ا ج ا س ک ت ا مے۔

آ ر ا ک اے ہ ی ہے او ک ہ ل ن ک اے و ق ف ہے

ا گ ر آ ج ر اور م ا ل ز م ر ض ی ہوں ت و آپ ک اے آ ج ک اے الی ی ت ی م ک ہ ن ا ل ہ س ے ز ی ا د م ی ل چ ک ٹ ہے ہ ی ک ا ک ی ب ع د و ہ آپ ک و 30 م ی ن ٹ ک ا ہ ل ک ا و ق ہ دے، پ ل چ ک ٹ ہے کی م د ت ک اے ل د ر 30 م ی ن ٹ ک ب ر ا ب ر د و م ت م ر ک ہ ل ک اے و ق ہ دے۔

آپ ک اے آ ج ک اے الی ی ت ی م ک ہ ن ا ل ہ س ے ز ی ا د م ی ل چ ک ٹ ہے ہ ی 24 گ ٹ ہے کی م د ت ہ ی ل گ ل ت ا ر 1 گ ٹ ہے ک ا م س ے چ ل ی دے۔ اس ک اے ع ا ل و ہ آپ ک و ک ا م ک ر ن ک اے م ر ف ت ہے ہ ی ل گ ل ت ا ر 24 گ ٹ ہے ک ا م س ے پ ہ ٹ م ل ن ی چ ل ی ہے، ی ک ا ک ر ن ک اے م ر د و ف ت ک اے ع ر ص ہے ہ ی ل گ ل ت ا ر 48 گ ٹ ہے ک ا م س ے پ ہ ٹ ی م ل ن ی چ ل ی ہے۔

آپ کے آجر کو ٹوٹورکے درہانٹہگٹھٹیکامسے چھٹی ہنی گئی ہے اس وقت الگ ہوں گے۔ جب دونوں ٹوٹوں ہرکی گئے
کامکامل وقت 3 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، یا آپ اور آپ کے آجر نے جریری شرکت میں اتفاق رائے کی ہو کہ آپ ٹوٹورکے
درہان کام سے ٹھہرے ہوں۔ یہ حکم کی چھٹی لیں گے۔

اں وقت کو شہ مار کرن کے لیے، Ontario.ca/ESAtools پر مال فہتے عیارت سرف سروس ٹول آڑھیں۔

کام کے ضل افگی ہنٹے

آپ اوپا آکا آجر ت حوری طور پر سل بک سے متعلقہ شرکت سے ہر کہ آپ فدرجہ فل سے زی اد کام کریں گے:

- دن ہر ہنٹہگٹھٹے یا ان کام قریگی لگی ام سقل کام دن گری ہنٹہگٹھٹوں سے زیادہ لمبا ہو؛
- فنتے ہر 48 گٹھٹے۔

آپ کو اضف گھٹے کلم کون بیو راضی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

گر آپ اضفلگی گٹھٹیکام کرن پیر رضی مت بیہمی میں مت بیہمی آپیلنے معلدے ہر کھل گئی گٹھٹوں کی عت علد سے زیادہ
کامن ہر شرکت سے ہیں۔

آپیلنے آجر کو دوفتورکت حوری نٹس دے کر اس معلدے کو فہو بھر شرکت سے ہیں۔ آپکا آجر بی آپکو مٹول نٹس دے
کر معلدے کو فہو بھر سکتا ہے۔ ہر بار جب آپکا معلدہ فہو و خوجات اتا ہے تو آپ اب مؤد اضفلگی گٹھٹیکام میں کر سکتے
ہیں۔

اگر کوئی ٹوٹو ہنٹہ پے کی فہادگی ہوتی ہے تو پے کی ہر نیآ کی طرف سے آپ کے آجر کے سرفھ معلدہ کر سکتی ہے۔

اضفلگی گٹھٹورکے معلدوں سے ہر کام کے گٹھٹورکے بارے ہر مؤد عمل و مانگے لیے، Ontario.ca/hoursofwork پر جھیں۔

اووٹائ کی واطگی

عام طور پر، گر آپ ط کفنتے ہر 44 گٹھٹے سے زی اد کام کرتے ہیں تو آپ کے آجر کو آپکو اور ٹٹا کی واطگی کرنی
وگی۔ اووٹائ کی واطگی آپکی مسقل واطگی کی شرح سے $\frac{1}{2}$ اگا زی اد ہوتی ہے۔

آپ اووٹائ کی واطگی کے سبب جملے کام سے بامعروضہ چھٹی لے سکتے ہیں اگر آپ اوپا آکا آجر ت حوری طور پر سل بانٹس سے
تفاق کرتے ہیں۔ اووٹائ کام کی گئی ہے۔ گر گٹھٹے کے لیے $\frac{1}{2}$ اگٹھٹے کی بامعروضہ چھٹی فراہمی جاتی ہے۔ یہ چھٹی یعنی
معنورکے دلہلے لی جلی چلے۔

